

بینک الحبیب لمیٹڈ
بینک چارجز کا شیڈول
یکم جنوری 2024 تا 30 جون 2024 تک

بین الاقوامی بینکاری

A درآمدات

I کیش لیٹرز آف کریڈٹ

AA۔ اوپننگ

سالانہ حجم / تقویمی سال کے دوران تکمیل شدہ کاروبار:

پہلی سہ ماہی	ہر اگلی سہ ماہی یا اس کا حصہ	کم از کم (کمیشن)
0.40 فیصد	0.25 فیصد	کم از کم 2,500 روپے
0.30 فیصد	0.20 فیصد	کم از کم 2,500 روپے
0.17 فیصد	0.10 فیصد	کم از کم 2,500 روپے

a۔ 10 ملین روپے تک

b۔ 10 ملین روپے سے زائد سے 100 ملین روپے تک

c۔ 100 ملین روپے سے زائد

نوٹ: اگر دوران سال صارف / گروپ کے ایل سی کاروبار کا مجموعی حجم 200 ملین روپے سے تجاوز کرتا ہے تو درج بالا کمیشن مجاز عہدیدار سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہے۔

AB۔ زائد المیعاد ختم ایل سیز کی توثیق نو یا نئے بینیفٹری کو منتقل کرنا

وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

درج بالا AA-I

1.00 فیصد 0.30 فیصد 1500 روپے

II بارٹر امداد / قرضوں کے تحت ناقابل ادائیگی ایل سیز:

III ترامیم:

a۔ اگر رقم اور / یا مدت ملوث نہ ہو

b۔ اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ملوث ہو

IV ایل سی کی منسوخی کے چارجز

V ریٹائرمنٹ:

1 پوزیشن بلز:

میعاد مکمل پر

1800 روپے (فلیٹ)

1800 روپے اور کمیشن درج بالا AA-I کے مطابق

2500 روپے بمعہ سوئفٹ چارجز

فی بل 1250 روپے اور اسکے علاوہ زائد کمیشن فی مہینہ 0.15 فیصد یا اس کا حصہ۔

پہلے سے وصول شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد کم از کم 1250 روپے

(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کم از کم 1500

روپے وصول کیے جائیں گے)

فی بل 2000 روپے فلیٹ

مارک اپ پی اے ڈی لوجمنٹ کی تاریخ سے یا ہمارے اکاؤنٹ کے پہلے سے ڈیبٹ

ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ کے ڈیبٹ ہونے کی تاریخ سے

ایل سی / معاہدے کے تحت پوزیشن بلز کی میعاد ادائیگی میں اضافہ

2 سائٹ:

ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a۔ پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b۔ اگلے اکیس دنوں سے پینتیس دنوں تک

c۔ لوجمنٹ کے پینتیس دنوں بعد

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 65 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 71 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 76 پیسے

(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز سے کم از کم

1500 روپے وصول کیے جائیں گے)

کم از کم 1000 روپے یومیہ بل کی رقم سے قطع نظر

3. زائد المیعاد ایکسپشن کی سہولت

VI ان ورڈ غیر ملکی دستاویزی بلز:

a۔ تمام ان ورڈ کلکیشن اوپن بینڈ لنگ چارجز/ اکاؤنٹ

b۔ بنانا ادائیگی، واپس کیے گئے آئٹمز/ بشمول کوریئر چارجز

c۔ تمام غیر ملکی بلز کلکیشن/ بشمول معاہدہ/ اوپن اکاؤنٹ کی ریٹائرمنٹ/ ادائیگی

d۔ سوئفٹ چارجز

1500 روپے

یو ایس ڈالر 100 (یا فارورڈنگ بینک کی طرف سے اس کے برابر کی غیر ملکی کرنسی)
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم از کم 1500 روپے وصول کیے جائیں گے)

1000 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر VI A، VIB اور V IC پر لاگو ہیں۔)

VII درآمدات کے مقابل پیشگی ادائیگی

a۔ سوئفٹ ٹرانسفر

b۔ ڈیمانڈ ڈرافٹس

c۔ سروس چارجز

1500 روپے

500 روپے

0.15 فیصد - کم از کم 1500 روپے

VIII کریڈٹ رپورٹس:

a۔ غیر ملکی بینکوں کو، اُن کی درخواست پر

b۔ غیر ملکی بینکوں کو، صارف کی درخواست پر

IX معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے

a۔ معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے

b۔ درآمدات کے کوٹریکٹس کے رجسٹریشن میں تبدیلیاں

i۔ اگر رقم اور/یا مدت شامل نہ ہو

ii۔ اگر رقم اور/یا مدت میں اضافہ ہو

غیر ملکی بینکوں سے یو ایس ڈالر 100

اصل پر بشمول 30 امریکی ڈالر یا اسکے مساوی پاکستانی روپے بطور سروس چارجز وصول کیے جائیں گے

0.20 فیصد فلیٹ، کم از کم 2500 روپے

1500 روپے (فلیٹ)

1000 روپے علاوہ کمیشن درج بالا IXA کے مطابق

اصل

X ری امبر سمٹ چارجز (ری امبر سنگ بینک کو قابل ادا)

XI میٹج کی ترسیل

a۔ فل سوئفٹ لیٹر آف کریڈٹ

b۔ ایل سی میں ترمیم سوئفٹ کے ذریعے

XII ڈسکریٹ دستاویز کی ہینڈ لنگ

XIII FoB کی بنیاد پر درآمد کے لئے فریٹ سرٹیفیکیٹ کا اجراء

XIV درآمدات کے عوض فنانشل انسٹرومنٹ کا اجراء (ایف آئی)

XV بینک سے بینک کو ایف آئی کی منتقلی

XVI اوپن اکاؤنٹ پر فنانشل انسٹرومنٹ (ایف آئی)

XVII دیگر چارجز

B برآمدات

I۔ لیٹر آف کریڈٹ

a۔ ایڈوانسنگ -

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

c۔ برآمداتی ایل سیز کے تحت روپے بل میں نیگوسی ایشن کرنا

d۔ تصدیق

1750 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

3000 روپے بمعہ کوریئر چارجز

1200 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

1800 روپے بمعہ کوریئر چارجز

0.30 فیصد - کم از کم 1000 روپے

کم از کم 1500 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی، جو بھی زیادہ ہو

زیادہ سے زیادہ - ہر کیس کی بنیاد پر

1500 روپے

725 روپے

1500 روپے

1200 روپے

e۔ برآمداتی ایل سیز کی منتقلی

f۔ نان ریڈیڈ ٹیٹ روپے اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینکوں کو ادا کی جانے والی رقم کی ادائیگی

g۔ برآمدی ایل سی کلکیشن

II اگر ایکسپریٹ ایل سیز کے تحت دستاویزات دیگر بینکوں کو نیگوسی ایشن کے لیے بھیجے

جائیں۔

III کلیکشنز

a۔ دستاویزی (جس پر بینک ایکسچینج فرانس نہیں کما تا ہو)

IV ڈیوٹی ڈرائیگ کلیم کی بینڈ لنگ

V جیمنٹ کور پہلے سے ہی بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ (NOSTRO) میں وصول ہو جانے کی صورت میں، کلیکشن کی بنیاد پر بھیجے گئے برآمداتی دستاویزات پر سروس چارجز

VI سائٹ لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت غیر ملکی کرنسی بلز کی نیگوسی ایشن

VII پیشگی ادائیگی پر سروس چارجز

VIII ایس پی او (اسٹینڈرائزڈ رپرچر آرڈر)

IX فریٹ سبسڈی

X ای ای کی تصدیق

XI دیگر بینکوں کو ای/ای ایف این اوسی کا اجراء

XII برآمدی ری فرانس درخواستوں پر بینڈ لنگ چارجز

XIII برآمدی ڈویلمینٹ سرچارج

XIV پی آر سی کے اجراء، چارج پڑتال، دوبارہ تصدیق اور آر اینڈ ڈی کی ادائیگی کے لیے کیس کو آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بڑھانے پر سروس چارجز۔ گارمنٹ کی صنعت (سے تعاون) کو سہارا

XV مقامی ٹیکسز اور لیویز کے ڈرائیگ (گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل اور فیبرکس)

XVI پروسیسڈ فوڈ کی برآمدات کے لیے 6 فیصد ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سپورٹ

XVII لائیوٹی فوڈز کے برآمد کنندگان کے لیے 25 فیصد فریٹ سبسڈی (ٹی ڈی اے پی طے کرتا ہے)

XVIII این لینڈ فریٹ سبسڈی

XIX بزنس پرفارمنس سرٹیفکیٹ

XX ڈیوٹی ڈرائیگ پر کلیم کرنے کے لیے ڈپلیکٹ انکس اے کا اجراء

XXI جہاں برآمد کنندہ کسی دوسرے بینک کو غیر ملکی زرمبادلہ فروخت کرے اور وصولی کی دستاویزات بذریعہ بینک الحبيب چھٹی جائیں تو ایسی صورت میں، زرمبادلہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی جگہ بینڈ لنگ اور سروس چارجز

XXII زائد المیعاڈ ایکسپورٹ بلز پورٹنگ کے بینڈ لنگ اور سروس چارجز

XXIII ڈیوٹی ڈرائیگ کی بینڈ لنگ (ڈی ایل بی ایل) / ٹیکسٹائل / انان۔ ٹیکسٹائل بینڈ لنگ چارجز (انکر میٹیل اسلیمز)

XXIV گندم / گندم کے آٹے، شکر اور ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل اور دیگر سبسڈیز کی برآمدات پر سبسڈی کلیمز کی بینڈ لنگ

XXV کلیکشن دستاویزات کو ٹیکو شیٹ کرنے کے لیے دیگر بینکوں کے نام

برآمد کا این اوسی کا اجراء / دیگر بینکوں کو ای ایف ای کی منتقلی

XXVI ٹی/ایل کو حوالے کرنے / حوالے کی صورت میں شپنگ کمپنیوں کو این اوسی کا اجراء

XXVII دوسرے بینک کو برآمد کی حاصل ہونے والی رقم کی منتقلی، جہاں ہمارے یہاں کوئی دستاویزات کی بینڈ لنگ نہیں کی گئی

XXVIII ایل بی ایف ایف (ایس بی بی) ایپلیکیشنز کیلئے بینڈ لنگ چارجز

XXIX ایکسپورٹ ڈاکیومنٹ ریٹرن بغیر ادائیگی کے

XXX ایکسپورٹ ایڈوانس جیمنٹ کیسز کے سروس چارجز جہاں ای فارم تصدیق ہوا سرٹیفکیٹیشن ایس بی بی اپروول کے ایک سال بعد

XXXI ایف آئی کے اجراء کی تاریخ کے 45 دن بعد شدہ ایف آئی

XXXII ڈپازٹ کے عوض ایکسپورٹس / غیر ملکی کرنسی کی حوالگی

XXXIII ایکسپورٹ پراسیڈر نیلٹازیشن سرٹیفکیٹ (ای پی آر سی) کا اجراء ایک سال سے زائد

XXXIV ایکسپورٹ کے عوض ایف آئی انسٹرومنٹ بنانا

c۔ کلیکشن (غیر ملکی کرنسی)

I آؤٹ ورڈز

a۔ کلین بلز

b۔ بنادائیگی واپس شدہ چیکس

c۔ لوکل بوائس ڈالر کلیکشن

d۔ واپس شدہ لوکل بوائس ڈالر کلیکشن کے چارجز

1000 روپے

25 پیسے فی 100 روپے (کم از کم 1000 روپے)

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1700 روپے

او۔ ڈی بانگ شرح لاگو ہوگی۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن ہزار روپے پر 50 پیسے وصول کیے جائیں گے۔

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1500 روپے

250 روپے فی آرڈر

1000 روپے فی کیس

1000 روپے فی کیس

1500 روپے

1000 روپے فی سمیشن

100 روپے فی بل

1000 روپے

1000 روپے فی دعوی

1000 روپے فی دعوی

1000 روپے فی دعوی

1000 روپے فی دعوی

900 روپے

500 روپے فی ٹرانزیکشن

0.10 فیصد کی شرح پر کم از کم 1250 روپے

ٹرانزیکشن کی رپورٹنگ کے وقت فی E فارم -1200 روپے

-1000 روپے فی شپمنٹ / فی ٹرانزیکشن

-1000 روپے فی کیس۔

-750 روپے

-1000 روپے فلیٹ

-1250 روپے۔ بشمول ٹی۔ ٹی سوئفٹ چارجز

2000 روپے فی کیس

1500 روپے

1000 روپے

100 روپے فی ایف آئی فارم

10,000 امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی رقم کیلئے 0.6 پیسے فی امریکی ڈالر یا

دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے مساوی

600 روپے

125 روپے فی درخواست

یو ایس ڈالر 10 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

D۔ ترسیلات - غیر ملکی

I آؤٹ ورڈ

a۔ فنانشل ڈیمانڈ ڈرافٹ FDD

یو ایس ڈالر 20 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم کے اندر بینک کے ساتھ میٹھین نہ کیا جائے

یو ایس ڈالر 35 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم کے اندر بینک کے ساتھ میٹھین نہ کیا جائے

یو ایس ڈالر 10

یو ایس ڈالر 6 کے علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

b۔ ایف ٹی ٹی

c۔ ایف ڈی ڈی کی منسوخی

d۔ ایف ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس / کوریئر / ڈاک / فیکس / سوئفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاق ہوتا ہو لئے جائیں گے

II ان ورڈ

a۔ ڈی ڈی / ای ٹی / ایم ٹی

کوئی چارج نہیں

1 فیصد کمیشن

III غیر ملکی ٹریڈر چیکس کا اجراء

E فارن بلز کی خرید

I غیر ملکی کرنسی انسٹرومنٹس:

او۔ ڈی بانگ ریٹ لاگو ہوں گے۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن 1000 روپے پر 50 پیسے بشمول 50 روپے بینڈ لنگ چارجز وصول کیے جائیں گے۔ متفرق سیکشن "F" کے مطابق

II دیگر چارجز

F۔ متفرق:

I کورس پونڈنس کے چارجز

II پونج / کوریئر / سوئفٹ چارجز کی وصولی درج ذیل کی جائیں گی:

اصل

200 روپے

i۔ اصل

ii۔ جہاں کوریئر کمپنی کی جانب سے کوریئر چارجز براہ راست ڈیبٹ ہوئے ہوں کسٹمر کے اکاؤنٹ سے تو بطور سروس چارج 150 روپے چارج کئے جائیں گے۔

1000 روپے فی پیغام

پونج
کوریئر

سوئفٹ

ہر صارف سے 60 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی روپے وصول کیے جائیں

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز کی کریڈٹ رپورٹ

1500 روپے فی کیس

IV صارفین کی درخواست پراسیڈر بینک آف پاکستان سے غیر ملکی زر مبادلہ کی ٹرانزیکشنز / ٹریڈ

ٹرانزیکشنز / یاد دہانی مقاصد کیلئے منظوری حاصل کرنا

V فارن کرنسی اکاؤنٹ کیلئے مستقل ہدایت

یو ایس ڈالر 3 فی ہدایت مع ریمیٹنس چارجز

اندرون ملک بینکاری

A۔ ترسیلات زر:

400 روپے (تعلیمی اداروں، ایچ ای سی/ بورڈ وغیرہ کی فیس/ واجب الادا رقم کیلئے بینکرز چیک/ ڈیمانڈ ڈرافٹ پرفیس لاگو نہیں ہوگی)۔

a۔ بینکرز چیک کا اجراء

b۔ ایم ٹی، ٹی ٹی، ٹی ٹی کا اجراء

i۔ ہمارے کورسپونڈینٹ پر ڈرافٹ ہونے والے

c۔ فیکس ای ٹی ٹی پر سوئفٹ چارجز

d۔ پوٹنٹ

e۔ منتقلی بذریعہ آئی بی سی اے

f۔ (i) آن لائن کیش جمع کروانا / رقم نکالنا

II ڈی ڈی / بی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

B۔ اندرون ملک تجارت

I ساقط ایل سیز کی توثیق نو یا نئے ہینڈیشری کو منتقل کرنا

II اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ کھولنے کا کمیشن

III اندرون ملک ایل سی دستاویزات میں غلطی کے چارجز

IV ایل سیز میں ترمیم

a۔ اگر رقم اور / یا مدت سے سروکار یا واسطہ نہ ہو

b۔ اگر مدت شامل ہو

c۔ اگر رقم میں اضافہ درکار ہو

V ریٹائرمنٹ:

1۔ مقامی ایل سی کے تحت مکمل میعاد پر بلز کی ریٹائرمنٹ

2۔ یونینس بلز: میعاد پر

3 سائٹ

(i) ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a۔ پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b۔ اگلے کیسویں دن سے پینتیسویں دن تک

c۔ لو جمنٹ کے پینتیسویں دن کے بعد

VI کلکیشن

a۔ دستاویزی (آئی ڈی بی سی اور ایل ڈی بی سی)

b۔ کلین (بشمول چیکس)

c۔ رجسٹریشن کے مینڈانگ چارجز / اسٹینڈرڈ پرچیز آرڈر کی ادائیگی (ایس پی او)

VII اندرون ملک کی ایل سیز کے لیے نیگوسی ایشن

VIII بلز اور چیکس وغیرہ کی خریداری:

a۔ دستاویزی بلز علاوہ اُن کے جو ایل سی اور کلین بلز / ٹریڈ چیکس پر ڈرا کیے گئے

ہوں

b۔ دیگر چیکس / ڈیمانڈ انسٹرومنٹ (جیسے ڈیویڈنڈ وارنٹس)

0.12 فیصد - کم از کم 225 روپے

150 روپے

200 روپے فی شے

کوئی نہیں

کوئی نہیں (اندرون شہر) کوئی نہیں (بیرون شہر)

450 روپے

450 روپے

وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

0.50 فیصد فی سہ ماہی اور بعد کی سہ ماہیوں کے لیے 0.35 فیصد کم از کم 2000 روپے

1500 روپے

1500 روپے

1500 روپے علاوہ کمیشن، بعد کی فی سہ ماہی کے لیے 0.35 فیصد کی شرح پر

B (II) کے مطابق 900 روپے بمعہ کمیشن

تمام بلز کی ریٹائرمنٹ پر (یونینس اور سائٹ) 0.05 فیصد سروس چارجز

500 روپے فی بل، زائد کمیشن کی شرح کے مطابق 0.10 فیصد فی مہینہ یا اس کا کچھ حصہ

پہلے سے کوڑا ایل سی کمیشن کی مدت کے بعد پی اے ڈی لو جمنٹ کی تاریخ سے لاگو شرح منافع

واجب الادا تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 65 پیسے فی یوم

واجب الادا تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 71 پیسے فی یوم

واجب الادا تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 76 پیسے فی یوم

0.4 یصد کم از کم 750 روپے بمعہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

0.25 فیصد کم از کم 250 روپے، زیادہ سے زیادہ 1100 روپے بمعہ ادائیگی کرنے

والے بینک کے چارجز

250 روپے

بل کی رقم کا 0.25 فیصد بمعہ تصدیق شدہ نرخوں میں کمی

0.40 فیصد کم از کم 100 روپے بمعہ شرح سود سے 41 پیسے فی دن فی ہزار انسٹرومنٹ کی

خریداری کی تاریخ سے لیکر انسٹرومنٹ کی وصولی بمعہ بینک چارجز

انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لے کر ادائیگی کی وصولی کی تاریخ تک 0.35 فیصد

کم از کم 30 روپے، فی دن ہزار روپے پر 41 پیسے کا شرح منافع کے ساتھ، علاوہ

ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

IX بغیر ادائیگی واپس آنے والے مقامی بلز

500 روپے

X متفرق چارجز: درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہوں (درج بالا I-V) زائد ہوں گے۔

a۔ کلکٹنگ بینک چارجز (اگر کلکٹنگ بینک، بینک الحیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو) اصل علاوہ 50 روپے

50 روپے

b۔ بذریعہ فون / فیکس انسٹرمنٹس کی معلومات

c۔ انسٹرمنٹ واپس ہونے کے چارجز

دستاویزی کلکیشنز کے لیے

کلین کلکیشنز کے لیے

d۔ اسٹورٹج چارجز

e۔ کوریئر چارجز:

- بینک الحیب کی برانچوں کے لیے

- دیگر بینکوں کے لیے

C۔ فنانسنگ / ایڈوانسز

I درج ذیل چارجز، مارک اپ کے علاوہ اضافی لیے جائیں گے:

- منصوبے کی معائنہ اور جائزہ فیس

- قانونی اور انتظامی فیس

- متفرق چارجز (سیکیورٹی کو جانچنا اور اسکا میٹننس)

II رہن اور ہانپو تھیکیشن پرفانس کے لیے

مختلف چارجز اور ہانپو تھیکیشن نافذ ہو سکتے ہیں:

a۔ گودام کا کرایہ

b۔ گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم کے چارجز

c۔ گودام کے معائنے کے چارجز:

i۔ میونسپل حدود کے اندر

ii۔ میونسپل حدود کے باہر

d۔ حوالے کرنے کے چارجز - اگر گودام کارکھوالا تعینات نہ کیا گیا ہو

e۔ اسٹاک کا معائنہ:

i اگر یہ معائنے بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں

ii اگر یہ معائنے بینک کا اسٹاف کرے

اصل

اصل

اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 400 روپے

قوانین کے مطابق ٹی اے اور ڈی اے علاوہ 400 روپے

اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 100 روپے فی ترسیل

اصل

(i) بلدیاتی حدود - 1000 روپے کے اندر

(ii) بلدیاتی حدود سے باہر - 2000 روپے فی معائنہ (30-45 دنوں میں زیادہ سے

زیادہ 1 مرتبہ)

نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/بیرونی اور اندرونی آڈیٹرز کے ذریعے سے گوداموں پر وقتاً

وقتاً چاٹک معائنے کی صورت میں چارجز نہیں ہونگے

اگر کوئی پارٹی کریڈٹ لائن کی منظوری حاصل کیے ہوئے ہو اور کمیٹی کیے گئے کاروبار کو

پہنچانے میں ناکام ہو جائے تو بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ متلافی کمیشن وصول

کرے جو کہ زیادہ سے زیادہ 5 فیصد کی شرح سے کاروبار میں خسارے کی حد تک ہو، وہ

کاروبار جو کہ پیشگی انتظام کے مطابق ہمارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو۔

250 روپے فی ترسیل

f۔ کاروباری عہد اور معاوضہ کمیشن

g۔ پلیجڈ کے سامان پر ڈیلیوری آرڈر چارجز

(i-h) قانونی چارجز:

. اندرونی قانونی معاونت:

2000 روپے فی دستاویز

500 روپے

اصل

اصل پر

زائد المعیاد کی تاریخ / ادائیگی کی تاریخ تک میچورٹی سے 28% سالانہ

6500/- روپے فی NOC

. جائیداد کے دستاویزات کی نظر ثانی

. دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سیکورٹیز پر حق تصرف (لی یں) کی نوٹنگ

. بیرونی قانونی معاونت:

III سی آئی بی رپورٹ چارجز

IV قرضہ جاتی سہولیات پر زائد المعیاد شرح (بشمول رعایت اور لیزنگ)

V مزید پروڈیوٹس کیلئے انکے فکسڈ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی /

مساوی چارجز / سینڈ چارج صارفین / کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء

(صارف کی درخواست پر)

2500/- روپے فلیٹ فی جائیداد بشمول قانونی / وینڈر فیس

VI اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹرار کے پاس جانا ہو تو ایسی

صورت میں ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی

VII سیکورٹی آف ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن / ترمیم / سیٹیفیکیشن

اصل پر / ویکشین آف چارج اور ڈائریکٹر / چارج سرچ / سی ٹی سی وغیرہ

VIII کنٹرول اینڈ سیکورٹی دستاویزات پر اسٹیٹ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیٹ

اسٹیٹ پیپر / چکنے والے ڈاک ٹکٹ کی اصل قیمت پر

ڈیوٹی ایکٹ کے مطابق

IX کمرشل وہیکل لیزنگ (CVLD کے ذریعے)

9000 روپے

اصل پر

واجب الادا رقم کا کل 1 فیصد

اصل پر

اصل پر

لیزرنٹل کی واجب الادا رقم کا 28% سالانہ

600 روپے

اصل پر

اصل پر

اصل پر (صارف ادا کرے گا)

اصل پر

a پروسیسنگ فیس

b دستاویز کے چارجز

c ابتدائی تصفیے کے چارجز

d اضافی تخمینے کے چارجز

e تخمینے کے چارجز۔ گاڑی کی دوبارہ ملکیت

f تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

g چیک واپس ہونے پر چارجز

h گاڑی کی رجسٹریشن / منتقلی کے چارجز

i دوبارہ ملکیت کے چارجز

j گاڑی کا ٹیکس

k قانونی چارجز

X۔ زرعی قرضہ جات

(i) تمام نئے / تجدید شدہ فارم اور نان۔ فارم لون

1.5 ملین تک کے قرضے

1.5 ملین سے زیادہ 3 ملین تک

3 ملین سے زیادہ

(ii) ٹریڈرز کیلئے قرضہ

(iii) دستاویزات اور اسٹامپ ڈیوٹی چارجز

(iv) پراپرٹی کی مالیت کے چارجز

(v) واجب الادا قلیل المدتی فنانس کی سہولت

(vi) پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی (پی ایل آر اے) سروس چارجز (صرف پنجاب میں) اصل

(vii) سیکورٹیز ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) میں سیکورٹی انٹرسٹ کی رجسٹریشن اصل

کیلئے فیس بشمول ابتدائی، ماڈیفیکیشن، ٹرمینیشن چارجز وغیرہ

XI کارپوریٹ کریڈٹ

(ا) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

50 ملین تک کے قرضے

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ 250 ملین تک

250 ملین سے زیادہ 500 ملین تک

500 ملین سے زیادہ

(ب) زائد المعیاد قلیل مدتی سہولت

XII کمرشل کریڈٹ

(i) مالی نیا/تجدید شدہ

2 ملین تک کے قرضے

2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک

5 ملین سے زیادہ 10 ملین تک

10 ملین سے زیادہ 20 ملین تک

20 ملین سے زیادہ 50 ملین تک

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ

(ii) اضافہ/کی/ای اوایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

(iii) قلیل المدت زائد المعیاد قرضے کی سہولت

XIII چینل فنانسنگ

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

(ii) اضافہ/کی/ای اوایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

XIV اسامی ایڈمیڈیم ایٹر پرائزز (ایس۔ ایم۔ ای)

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

مالی سہولت 10 ملین تک

مالی سہولت 10 ملین سے زیادہ

(ii) ایس ایم ای صارفین (ایس ایم ای اور ایم ای) کے واجب الادا چارجز

نوٹ: مندرجہ ذیل میں یعنی کنزرویومر بینکنگ پروڈکٹس، چینل فنانسنگ، کمرشل ویکل لیزنگ

کے علاوہ تمام ایس ایم ایز پر ایس ایم ای SOC لوگو ہیں۔

D لاکر کی سہولیات

لاکرز چند ہی براچوں میں دستیاب ہیں۔ اگر کی ڈپازٹ کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی تو موجودہ

اور نئے صارفین سے لاکر کی سالانہ فیس مدت شروع ہوتے وقت پیشگی وصول کی جائے گی

a کی ڈپازٹ

یا

b سالانہ فیس

c. لاکر توڑنے/جانی کی تبدیلی کے چارجز

d. دیر سے ادائیگی کی فیس (آخری تاریخ سے

30 یوم کی مدت تک رعایتی وقت)

10,000 روپے

25,000 روپے

70,000 روپے

80,000 روپے

100,000 روپے

زائد المعیاد قلیل مدتی سہولت میں اسکی واجب الادا رقم پر 28% سالانہ کی شرح سے معاوضہ لیا جائے گا۔

2,500 روپے

3,000 روپے

5,000 روپے

10,000 روپے

20,000 روپے

30,000 روپے

50,000 روپے

کوئی نہیں

زائد المعیاد ایس ٹی ایف رقم پر 28% سالانہ کی شرح سے چارج کیا جائے گا

5000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

5,000 روپے

0.05 فیصد زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے

28 فیصد ایس ٹی ایف سہولت کے عوض

چھوٹے لاکر کے لیے 40,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 50,000 روپے

بڑے لاکر کے لیے 70,000 روپے

چھوٹے لاکر کے لیے 5,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 7,500 روپے

بڑے لاکر کے لیے 10,000 روپے

اصل پر

500 روپے (اسمال)

650 روپے (میڈیم)

850 روپے (لارج)

E۔ گارنٹیز

I ابل آف لیڈنگ / ایئر کنسائمنٹ نوٹس کے بدلے میں شپنگ کمپنیز / ایئر لائنز کو جاری 2000 روپے

کردہ گارنٹیز

II ڈیوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلیکٹر کو جاری کردہ گارنٹیز 0.60 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 1600 روپے فی سہ ماہی

III دیگر گارنٹیز 0.40 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 1500 روپے فی سہ ماہی

500 روپے

IV برآمد سے حاصل ہونے والی رقوم و دہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ گارنٹیز

V دیگر گارنٹیز بشمول موخر ادائیگیوں کی گارنٹیز سپلائر یا بائزر کریڈٹ / وصول کنندہ اسکیم کے تحت :

a اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے تک کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ 0.40 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 500 روپے فی سہ ماہی

b اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے سے زائد کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ 0.30 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ

(کمپیڈ سالانہ کاروبار کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں درج بالا شرح (a) کا اطلاق ہوگا اور باقی رقم کا فرق وصول کر لیا جائے گا)

VI گارنٹی لیٹر کے متن میں ترمیم (رقم اور مدت وہی رہے گی) ترمیمی کمیشن 1200 روپے

VII ایل جی کی وصولی کے چارجز (کارپوریٹ کسٹمرز کی جانب سے گارنٹیز کی وصولی اور یہ سروس ان کے لئے ہے جنھیں قرضے کی سہولت میسر ہے) 1500 روپے فی انسٹرومنٹ / ایل جی

VIII بینفشری / اسائن کی جانب سے ہماری ایل سی کے عوض ہینڈلنگ کمیڈ کیلئے سروس 2500 روپے پر فلیٹ

چارجز (بینک کے باہر سے یا دوسرے بینک سے دعویٰ وصول کرنے کی صورت میں صارف سے چارجز کی وصولی)

IX. گارنٹی لیٹر کی تینینج 625 روپے

X. الیکٹرک بینک گارنٹی کے اجراء کے لئے سوفٹ چارجز 500 روپے

نوٹس: رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہونگے۔

گارنٹی جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر میعاد ختم ہونے تک گارنٹی کمیشن وصول کیا جائے گا۔

F۔ انویسٹمنٹ پورٹفولیو سکیورٹیز کا وٹ (IPS)

(i) انویسٹمنٹ پورٹفولیو سکیورٹیز 1000 روپے فی ٹرانزیکشن

(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز 1000 روپے فی ماہ

G۔ متفرق چارجز:

1۔ چیکس کی ادائیگی روکنا

2۔ بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس ہونے پر

3۔ اسٹیٹمنٹ انسٹرکشن چارجز (پینشنر اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں)

4۔ صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفیکٹ کے اجراء

پر

5۔ صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے اجراء پر

(اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹیٹمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت

میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)

(i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

(ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

35 روپے

اضافی 35 روپے ہر 6 ماہ پر

- 6۔ اُسی دن، چیکس کلیر ہونے کے چارجز 500 روپے فلیٹ
- 7۔ اُسی دن کا کلیرنگ چیک جو ہم پر ڈرا ہوا اور نا کافی فنڈ کی صورت میں بغیر ادائیگی 600 روپے یا 600 روپے سے کم واپس ہو جائے
- 8۔ آن لائن، چیک واپس ہونے پر چارجز کوئی چارجز نہیں
- 9۔ دیگر بینکوں/بچت مرکز سے کوپنز پر منافع وصول کرنے کے کلکیشن چارجز 150 روپے
- 10۔ ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں 150 روپے فی چیک
- 11۔ ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء 100 روپے
- 12۔ چیک بک کے چارجز (پینشنر اکاؤنٹ کے لیے مفت چیک بک) 25 روپے فی لیف
- 13۔ اسپیشلائزڈ/اتھارائزڈ چیک بک اصل
- 14۔ کال ڈپازٹ رسید کے اجراء کے چارجز کوئی چارجز نہیں
- 15۔ کال ڈپازٹ رسید کی ڈپلیکیٹ کے چارجز 300 روپے
- 16۔ کال ڈپازٹ رسید کی منسوخی کے چارجز کوئی چارجز نہیں
- 17۔ اکاؤنٹ میٹیننس سرٹیفکیٹ 300 روپے فی سرٹیفکیٹ (کوئی چارجز نہیں اگر بینک الحیب سے لون کیلئے درکار ہو)
- 18۔ انٹرسٹی چیکس کی وصولی بذریعہ نفٹ 300 روپے فی انٹرسٹ منٹ
- 19۔ انٹرسٹی (آؤٹ ورڈ)، چیک کی واپسی کے چارجز 600 روپے فلیٹ
- 20۔ بذریعہ پریم سسٹم تھرڈ پارٹی کے فنڈز منتقلی کی سیٹلمنٹ کم از کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور زائد
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک 220 روپے
- دوپہر 1:30 بجے سے دوپہر 3:00 بجے تک 330 روپے
- دوپہر 3:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک 550 روپے
- کم از کم قیمت کی حد 100,000 روپے
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے شام 4:30 بجے تک
- 50 روپے فی ٹرانزیکشن (زیادہ سے زیادہ 10 سیمنٹ انٹرسٹ کسٹمر بھیجی جاتی ہیں بذریعہ ایک ایم بی 102 مسج)

نوٹ: مزید ہدایات آنے تک اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے RTGS چارجز ختم کر دیئے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے PSD سرکل نمبر 2 بتاریخ 2020 کو جاری کئے گئے تھے۔ مستقبل میں لاگو ہونے والے چارجز فوری طور پر مندرجہ بالا کے مطابق لاگو ہونگے۔

- 21۔ بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ 250 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 22۔ ایکسپریس چیک بک (10 لیوز) 300 روپے
- 23۔ بیلنس کا سرٹیفکیٹ 375 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 24۔ آڈیٹر کیلئے سرٹیفکیٹ برائے بیلنس 500 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 25۔ پرانے ریکارڈ کے حصول کیلئے
- 1 سال تک 400 روپے
- 2 سال تک 500 روپے
- 3 سال تک 600 روپے
- 3 سال سے زائد 900 روپے
- 26۔ قومی پرائز بونڈ پر بینک چارجز۔ جیتی گئی رقم کے کلیم پر 225 روپے فی دعویٰ
- 27۔ CIT (کیش ان ٹرانزٹ) چارجز قومی پرائز بونڈ پر۔ جیتی گئی رقم کے دعوے پر اصل (اگر جیتی گئی رقم) 100,000 روپے کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو
- 28۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان/نیشنل بینک آف پاکستان کے چیکس کے اجراء پر 500 روپے
- اسٹیشن کلیرنگ (صرف صارف کی درخواست پر)
- 29۔ SECP آن لائن پورٹل سروس چارجز پرائیویٹ کمپنیز 1100 روپے، پبلک کمپنیز 2000 روپے
- 30۔ پروسیڈرینٹل ٹرینیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر۔ ایک سال کے بعد 500 روپے
- 31۔ ڈوپلیکیٹ پروسیڈرینٹل ٹرینیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر 700 روپے

کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس

I۔ ذاتی قرضے کی سہولت

- a۔ پروسیڈنگ فیس
b۔ پیشگی ادائیگی
c۔ تاخیر سے ادائیگی پر چارجز
d۔ جزوی ادائیگی کی فیس/چارجز
e۔ مقدمہ سازی/قانونی چارجز
f۔ قانونی دستاویزات/معاهدے کے اسٹیمپنگ چارجز

II۔ کیش فنانس کی سہولت

- a۔ قانونی دستاویزات کی سہولت/معاهدے کے اسٹیمپنگ چارجز
b۔ پروسیڈنگ فیس
c۔ لی مین مارکنگ کے چارجز (بینک الحیب کے علاوہ)
d۔ تاخیر سے کی گئی ادائیگی کے چارجز

III۔ آٹو کے قرضے جات

- a۔ پروسیڈنگ فیس
(i) نئی گاڑیوں کی
(ii) درآمد شدہ/مرمت شدہ اور استعمال شدہ گاڑیوں کی
b۔ جلد ادائیگی کی فیس/چارجز (پوری/جزوی)
c۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
d۔ چیکس کے بغیر ادائیگی/واپس ہونے پر چارجز
e۔ دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
f۔ گاڑی کے معائنے/تخصیص کے چارجز
g۔ گاڑی کے دوبارہ قبضے پر معائنے/تخصیص کے چارجز
h۔ مقدمہ سازی/قانونی چارجز
i۔ جزوی پری پیمنٹ فیس/چارجز
j۔ ذاتی، حادثاتی بیمہ
k۔ گاڑی کی رجسٹریشن/اٹرانسفر چارجز/سکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری
l۔ ویز ہاؤس چارجز

IV۔ آٹو لیزنگ (بذریعہ کنزیومر بینکنگ ڈویژن)

- a۔ پروسیڈنگ فیس فی ٹرنچ
b۔ قانونی دستاویزات/معاهدے کے اسٹیمپنگ چارجز
c۔ جلد ادائیگی کی فیس/چارجز
d۔ تاخیر سے کی گئی ادائیگی کے چارجز
e۔ چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
f۔ دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر فی گاڑی چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
g۔ گاڑی کے معائنے/تخصیص کے چارجز
h۔ مقدمہ سازی/قانونی چارجز

V۔ ہاؤسنگ فنانس فیسلٹی (بشمول کیٹگری II کے تحت رینو ایبل انرجی سولوشنز کیلئے قرضہ انفرادی افراد کیلئے)

- a۔ پروسیڈنگ فیس
b۔ جلد ادائیگی کی فیس/چارجز (پوری/جزوی)
c۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
d۔ چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
e۔ جائیداد کے معائنے/تخصیص کے چارجز
f۔ وکیل کی فیس
g۔ آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس
h۔ دستاویزات/اسٹیمپنگ چارجز
i۔ کوریئر چارجز (فارن)

VI۔ ہاؤسنگ فنانس کیلئے گورنمنٹ مارک اپ سبسڈی اسکیم (میرا پاکستان میرا گھر)

- پروسیسنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- جائیداد کے معائنے / تشخیص چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- دستاویزات / اسٹیپنگ چارجز
- کوریر چارجز (فارن)

5000 روپے
کوئی نہیں
1000 روپے
600 روپے
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

VII۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس پلان (اسال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز)

- قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیپنگ چارجز
- پروسیسنگ فیس
- معائنے / تشخیص کے چارجز
- وکیل کی تشخیص فیس
- آمدنی کا تخمینہ

اصل
100 روپے
اصل
اصل
اصل

آلٹرنیٹ ڈیوری (اے ڈی سی) چینلز

- فنڈز ٹرانسفر کی سہولت
انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر بذریعہ اے ٹی ایم / انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل بینکنگ

25,000 روپے فی مہینہ / فی اکاؤنٹ تک مفت آئی بی ایف ٹی۔
25,000 روپے فی مہینہ / فی اکاؤنٹ سے زائد اضافی رقم کیلئے، ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.1 فیصد
یا 200 روپے، جو بھی کم ہو، چارج کیا جائے گا۔

II۔ اے ٹی ایم

- اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء
- اے ٹی ایم سوچ ٹرانزیکشنز
- دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم سے کیش نکالوانے پر
- لوکل بیلنس معلوم کرنے کے چارجز
- اے ٹی ایم رسید کی پرنٹنگ کی صورت میں فیس (آف نیٹ / آن نیٹ)

فری
23.44 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن

III۔ ویزا ڈیبٹ کارڈ

- سالانہ / متبادل۔ پرائمری
- سالانہ / متبادل۔ سلیمنٹری
- اے ٹی ایم بین الاقوامی کیش وود ڈرال
- مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

سلور کارڈ کیلئے 2500 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 3500 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 7000 روپے
سلور کارڈ کیلئے 1750 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 2200 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 4500 روپے
4.25 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم
اصل
اصل
اصل
اصل

- h۔ بین الاقوامی سطح پر بیلنس انکوائری چارجز 250 روپے
- i۔ ویزا آر بیٹریشن چارجز اصل
- j۔ بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن 4.00 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر

VI۔ موبائل بینکنگ

موبائل بینکنگ پن کے دوبارہ اجراء پر مفت

V۔ چانکائیونین پے

- a۔ سالانہ/متبادل۔ پرائمری 2000 روپے
- b۔ سالانہ/متبادل۔ سپریمٹری 1500 روپے
- c۔ بین الاقوامی سطح پر ای ایم کیش وڈرل 4.25 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
- d۔ بین الاقوامی سطح پر بیلنس انکوائری 250 روپے
- e۔ بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن 4.00 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
- f۔ مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز اصل
- g۔ بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز اصل
- h۔ مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز اصل
- i۔ بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز اصل

VI۔ یوٹیلیٹی بلز اور دیگر ادائیگیوں کیلئے چارجز

A. ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت

- a۔ ہر کامیاب ٹرانزیکشن پر 25 روپے

VII۔ پے پاک

- a۔ سالانہ/متبادل 1600 روپے
- b. لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز + اصل
- c. لوکل ریٹریول کی درخواست کے چارجز اصل

نوٹ۔ تمام کرنٹ اکاؤنٹس پر پے پاک ڈیبٹ کارڈ پر جاری کرنے/سالانہ تجدید کی فیس معاف کرنے کے لیے، صارفین کو پچھلے/اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔

(i) نئے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جب CPU کی جانب سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ذریعے درخواست دی جائے گی)۔

(ii) موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پچھلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر سی پی یو سے درخواست پر کارروائی کے بعد پچھلے مہینے کی مدت (یعنی 30 دن) مکمل نہیں ہوتی ہے تو اگلے مہینے میں ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا چاہیے۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب الیکٹرانک درخواست فارم/کال سینٹر کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست دی جائے گی)۔

(iii) پے پاک ڈیبٹ کارڈ چارجز ان اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں بینک نے چارجز سے استثنیٰ دیا ہے۔

VIII۔ کریڈٹ کارڈ

- a۔ سالانہ۔ پرائمری
- b۔ سالانہ۔ سپلیمنٹری
- c۔ کریڈٹ کارڈ اے پی آر
- d۔ تاخیر سے ادائیگی کی فیس
- e۔ کیش ایڈوانس فیس
- f۔ چیک کے واپس ہونے پر فیس
- g۔ فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (مقامی)
- h۔ فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (بین الاقوامی)
- i۔ غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز
- j۔ کریڈٹ کارڈ کے متبادل کی فیس
- IX۔ ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)
- گرمین کارڈ کیلئے 4500 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 6500 روپے
- گرمین کارڈ کیلئے 2000 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 3000 روپے
- 25 فیصد سالانہ
- 1500 روپے یا کم از کم واجب الادا ادائیگی کا 10 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
- 600 روپے یا 3 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
- 600 روپے
- اصل
- اصل
- 4.0 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
- 1,500 روپے
- انفرادی اور سول پروپرائٹرشپ اکاؤنٹس کیلئے فی ماہ فی اکاؤنٹ 160 روپے
- انشائی اکاؤنٹ کیلئے فی ماہ فی اکاؤنٹ 300 روپے

کیش منجمنٹ سروسز

- a۔ ملک بھر میں کلیکشن سولیشنز (کارپوریٹس/ایس ایم ایز/ایف آئیز کے لیے) معاہدے کے مطابق
- b۔ بلک سیلیریز/ادائیگیاں معاہدے کے مطابق
- c۔ ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ادائیگی کا انتظام معاہدے کے مطابق
- d۔ کسٹمائزڈ ایم آئی ایس /رپورٹنگ معاہدے کے مطابق
- e۔ بینکرز ٹودی ایشو/فلوٹیشنز (آئی پی او/ٹی ایف سیز/رائٹ شیئرز وغیرہ) معاہدے کے مطابق
- f۔ دیگر کوئی سروس معاہدے کے مطابق
- g۔ الجیب پیمنٹ سسٹم (بلک پیمنٹس) معاہدے کے مطابق

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے لاگو ٹیکسز/حکومتی ڈیوٹیاں ریگولر چارجز کے علاوہ صارف سے چارجز وصول کئے جائیں گے، جہاں لاگو ہوں۔
- اسلامک بینکنگ کے صارفین پر اسلامک بینکنگ شیڈیول آف چارجز کے مطابق چارجز لگائیں گے۔
- پروسیسنگ کی غلطی کی صورت میں عائد ہونے والے چارجز واپس کر دیئے جائیں گے

UNSC ریزولوشن کے تحت بلاکڈ /منجمد اکاؤنٹس یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان /قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے جاری کردہ دیگر ایس آر او کسی بھی قسم کے چارجز میں کسی بھی قسم کی کٹوتی سے مشروط نہیں ہوں گے۔

GEM - ٹیرف شیڈیول

GEM(a) اکاؤنٹ اوپننگ (انفرادی)

انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 2,000 روپے (بینک کی خدمات کے چارجز کی مد میں 1400 روپے، سی ڈی سی چارجز 400 روپے، یو آئی این چارجز 200 روپے)

GEM(b) اکاؤنٹ اوپننگ (کارپوریٹ)

کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 5,000 روپے

(c) بروکر چارجز

3 پیسہ یا 0.15 فیصد جو بھی زیادہ ہو

GEM(d) فیسیلیٹیشن چارجز

(ہر ایک خرید و فروخت کے سودے پر جو کہ اُسی کاروباری دن میں برابر نہ ہوا ہو)
سیکیورٹی ریٹ سیکیشن (شرح) کم از کم زیادہ سے زیادہ

(روپے میں)	(روپے میں)
0.15	0.01
0.30	0.15
0.50	0.30

شیرز کے لئے 0.10 فیصد
ٹی ایف سی 0.1000 فیصد سالانہ
رائٹس کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ

(e) کسٹوڈیل چارجز

شیرز کے لئے 0.10 روپے فی شیر
ٹی ایف سی کے لئے 50 روپے فی یونٹ
رائٹس کے لئے 0.10 روپے فی رائٹ
رائٹ انٹیکلمنٹ ڈپازٹ

(f) نکلوانے کے چارجز

نکلوانے کی فیس (سی ڈی سی چارجز)

شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ

نکلوانے کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)

(g) جمع کروانے کے چارجز

شیرز کے لئے 0.01 روپے فی شیر
ٹی ایف سی 0.01 روپے فی یونٹ
رائٹس کے لئے 0.01 روپے فی رائٹ

ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)

شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ

ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)

شیرز کے لئے 0.010 فی شیر

(h) شیرز کی منتقلی کے چارجز/آؤٹ

(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی)

شیرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیر

(i) شیرز پلچ فیس

j) NCCPL چارجز

0.0025 فیصد فی شیئر

k) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں ہوگی) (NCCPL)

کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے
انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے

l) انفرادی اکاؤنٹ کیلئے سی ڈی سی ڈیلی اکاؤنٹ کھولنے پر سالانہ چارجز
(پہلے سال کیلئے لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

400 روپے

چارجز وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں بینک شیڈول آف چارجز کے مطابق اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان پر عمل کرے۔
تمام چارجز ناقابل واپسی ہیں جب تک کے بینک اس کے برعکس ظاہر نہ کرے۔
* لاگو حد 3 پیسہ فی حصص یا 0.15% سودے کی رقم پر جو بھی زیادہ ہو 2.5% تک اور پھر ظاہر کئے گئے سودوں کی رقم کا۔

الحبيب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ

A. متفرق چارجز

i. بینکرز چیک کا اجرا

ii. چیک بک چارجز

iii. اسپتالز ڈاکسٹرائز ڈچیک بک

iv. چیکوں کی اسٹاپ پیمنٹ

v. ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)

vi. کم از کم بیلنس کے چارجز

vii. ٹیلیفون بل / موبائل بل کی ادائیگی

viii. بینک الحبيب ٹیکسی بھی اکاؤنٹ میں فنڈز کی منتقلی

ix. اے ٹی ایم / انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل بینکنگ

400 پاکستانی روپے

25 روپے فی لیف

اصل

700 پاکستانی روپے

160 روپے فی ماہ فی اکاؤنٹ (مقامی)

مفت

مفت

مفت

مفت 25,000 IBFT روپے تک فی مہینہ / فی اکاؤنٹ کے ذریعے انٹرنیٹ بینک فنڈز کی

منتقلی 25,000 روپے سے زیادہ کی اضافی رقم کی ٹرانزیکشن کے لیے فی مہینہ مہینہ

(صرف PKR اکاؤنٹس کے لیے) فی اکاؤنٹ، 0.1 فیصد یا 200 روپے، جو بھی

کم ہو وصول کیا جائے گا۔

500 پاکستانی روپے فلیٹ

300 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

300 پاکستانی روپے فی انسٹرومنٹ

600 پاکستانی روپے فلیٹ

250 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

35 پاکستانی روپے

اضافی 35 پاکستانی روپے فی 6 ماہ

200 پاکستانی روپے

(i) اصل

(ii) اس میں کوریٹ کمپنی کے سروس چارجز سمیت کوریٹ چارجز کی کٹوتی صارفین کے

اکاؤنٹ سے کی جائے گی۔ 150 پاکستانی روپے

1000 پاکستانی روپے فی پیغام کم کیلئے

مفت - تمام بین الاقوامی عہدوں کیلئے

اصل

ix. اے ٹی ایم / انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل بینکنگ

xi. اکاؤنٹ ٹیلیفون بل / موبائل بل کی ادائیگی

xii. این آئی ایف ٹی کے ذریعے انٹرنیٹ چیکس کیلکیشن

xiii. انٹرنیٹ چیک ریٹرن چارجز

xiv. بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ

xv. درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجرا

(i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

(ii) 6 ماہ سے زیادہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

xvi. بین الاقوامی ڈاک / کوریئر / سوئفٹ چارجز حسب ذیل وصول کیے جائیں گے:

ڈاک

کوریئر

سوئفٹ

xvii. ویلکم پیک ڈیلیوری

xviii. گراڈی اے کنسائنمنٹ ڈیلیور نہ ہو سکا اس کے چارجز اور نامکمل پتے پر کوریئر

ہونے / صارف کی عدم دستیابی کی صورت میں چارجز

B. ترسیلات زر - غیر ملکی

ایبرونی

(a) - ڈیمانڈ ڈرافٹس

(b) - ایف ٹی ٹی

(c) - ایف ڈی ڈی کی منسوخی

(d) - ایف ڈی ڈی کی اسٹاپ پیمنٹ

(a) مفت بینک چارجز لاگو ہوں گے

(b) مفت بینک چارجز لاگو ہوں گے

(c) - 10 امریکی ڈالر

(d) - امریکی ڈالر 6 پلس ڈرای بینک چارجز - اصل

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس / کوریئر / ڈاک / فیکس / سوئفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاق ہوتا ہو لئے جائیں گے

II اندرونی

(a) DD/TT/MT

کوئی نہیں۔

روایتی بینکنگ اکاؤنٹس پر 1 فیصد کمیشن

1000 روپے فی ٹرانزیکشن

1000 روپے فی ماہ

فری

(b) - فارن ٹریولرز چیک کا اجرا

C - انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سیکیورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

(i) انویسٹر کارپورٹ فولیو سیکیورٹیز

(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز

D - اے ٹی ایم

(a) - اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

- (b) اے ٹی ایم سوئچ ٹرانزیکشنز
(i) دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر
(ii) مقامی بیلنس اکوائری چارجز
(iii) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آف نیٹ/آن نیٹ)
E. ویزہ ڈیپٹ کارڈ

a۔ سالانہ/متبادل/پرائمری

b۔ سالانہ/متبادل/سپلیمنٹری

- (c) بین الاقوامی اے ٹی ایم اسے رقم نکلوانے پر
(d) مقامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(e) بین الاقوامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(f) مقامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(g) بین الاقوامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(h) انٹرنیشنل بیلنس اکوائری چارجز
(i) ویزہ ٹاشی چارجز
(j) بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن

(F) الحیب روشن اپنا گھر

- (a)۔ پروسیدنگ فیس
(b)۔ ابتدائی تصفیہ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)
(c)۔ دیر سے ادائیگی کے چارجز
(d)۔ ناکارہ/واپس کے گئے چیکس پر چارجز
(e)۔ جائیداد کی تشخیص/تشخیصی چارجز
(f)۔ وکیل کی تشخیص کی فیس
(g)۔ آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس
(h)۔ دستاویزات اور اسٹیپ ڈیوٹی چارجز
(i)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)

G۔ الحیب روشن اپنی کار

- (a)۔ پروسیدنگ فیس
(b)۔ ابتدائی سیٹلمنٹ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)
(c)۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
(d)۔ ناکارہ/واپس شدہ چیکس پر چارجز
(e)۔ دوبارہ قبضے کے چارجز (شہر کے اندر اور باہر)
(f)۔ گاڑی کی تشخیص/تشخیصی چارجز
(g)۔ دوبارہ قبضہ شدہ گاڑیوں کی تشخیص/تشخیصی چارجز
(h)۔ قانونی چارہ جوئی/قانونی چارجز
(i)۔ جزوی ادائیگی فیس/چارجز
(j)۔ ذاتی حادثاتی بیمہ

(k)۔ گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)

(l)۔ گودام کے چارجز

(m)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)

(n)۔ تصدیقی چارجز

23.44 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن

سلور کارڈ کے لئے 2500، روپے، گولڈ کارڈ کے لئے 3500 روپے، پلاٹینم کارڈ کے

لئے 7000 روپے

سلور کارڈ کے لئے 1750 روپے، گولڈ کارڈ کے لئے 2200 روپے، پلاٹینم کارڈ کے

لئے 4500 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.25 فیصد

اصل

اصل

اصل

اصل

250 روپے

اصل

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.00 فیصد

4,000 روپے

ایک سال کے اندر 1 فیصد، اسکے بعد کوئی چارجز نہیں

تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 900 روپے

600 روپے فی کیس

اصل

اصل

اصل

اصل

اصل

7,000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 1000 روپے

600 روپے فی کیس

100,000 روپے یا اصل میں جو بھی کم ہو۔

اصل

اصل

اصل

کوئی نہیں

کوئی نہیں

اصل

اصل، جہاں قابل اطلاق ہو۔

اصل

اصل

H گیسٹ وے ٹوائیکوٹی مارکیٹ (GEM)

GEM (a) اکاؤنٹ کھولنا

(b) بروکر چارجز

GEM (c) فیسیلیٹیشن چارجز

انفرادی (انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر روپے 2,000 (1400 روپے بینک کے سہولت
کاری چارجز، 400 روپے سی ڈی سی چارجز، 200 روپے یو آئی این چارجز)
کم از کم شرح 3 پیسے یا 0.15 فیصد، جو بھی زیادہ ہو (ہر ایسی خرید و فروخت پر جو اسی
دن کے دوران نہیں کی گئی ہو)

زیادہ سے زیادہ (روپے میں)	کم از کم (روپے میں)	کمیشن (فیصد میں)	سیکیورٹی ریٹ
0.15	0.01	0.10- فیصد	199.99 تک
0.30	0.15	0.075 فیصد	200-399.99
0.50	0.30	0.05 فیصد	400 سے زیادہ

شیرز کے لیے 1000.0 فیصد سالانہ
TFCs 0.1000 فیصد سالانہ
رائٹس کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

(d) تحویل کے چارجز (مارکیٹ ویلیو)

(e) پیسے نکلوانے کے چارجز
پیسے نکلوانے پر (سی ڈی سی چارجز)

شیرز کیلئے 0.10-10 روپے فی شیر
TFC کیلئے - روپے فی یونٹ 50 روپے
رائٹس کیلئے فی رائٹ 0.10
شیرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 فی شیر/ یونٹ/ رائٹ
شیرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 50.0 فی شیر/ یونٹ/ رائٹ

واپسی کی پروسیجرنگ فیس (بینک چارجز)

(f) ڈپازٹ چارجز
ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی)

شیرز کے لیے 0.01 روپے فی شیر
TFCs کے لیے 0.01 روپے فی یونٹ
رائٹس کے لیے 0.01 روپے فی رائٹ
شیرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 روپے فی شیر/ یونٹ/ رائٹ
شیرز کے لیے 0.010 فیصد فی شیر
(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے اور 60,000 روپے ہوگی)
شیرز کے لیے 0.004 فیصد فی شیر
0.0025 فیصد فی شیر
کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے
انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے
400 روپے

ڈپازٹ پروسیجرنگ فیس
(g) شیرز ٹرانسفر چارجز جمع کرنے یا نکلوانے پر

(h) شیر پلج چارجز

(i) NCCPL چارجز

(j) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں)

(k) سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کے سالانہ انفرادی اکاؤنٹ چارجز
(پہلے سال لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

نوٹ: دیگر تمام فیسوں اور چارجز کے لیے، براہ مہربانی ہمارے بینک کاشیڈول آف چارجز ملاحظہ کریں۔